



Six Kalima's

First Kalima Tayyab

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ ط

اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اللہ کے رسول ہیں۔

There is none worthy of worship except ALLAH (and) Muhammad (P.B.U.H) is the Messenger of ALLAH.



- ◆ BOLD READ
- ◆ GHUNNAH
- ◆ QALQALA
- ◆ MAKE IKHFA

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ
وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ط



میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کہ سوا کوئی معبود نہیں وہ اکیلا ہے اُس کا کوئی شریک نہیں،
اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بیشک محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اُس کے بندے اور رسول ہیں۔

I bear witness that there is none worthy of worship except ALLAH,
the One alone, without partner, and I bear witness that
Muhammad (P.B.U.H) is His Servant and Messenger.

- ◆ BOLD READ
- ◆ GHUNNAH
- ◆ QALQALA
- ◆ MAKE IKHFA

سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ ط

وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ ط

اللہ پاک ہے اور سب تعریف اللہ کے لئے ہے اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں
اور اللہ بہت بڑا ہے گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیک کام کرنے کی
توفیق نہیں مگر اللہ کی طرف سے جو بہت بلند عظمت والا ہے۔



Glory be to ALLAH and all praise be to ALLAH and there is none
worthy of worship except ALLAH, and ALLAH is the Greatest.
And there is no might or power except with ALLAH,
the Exalted, the Great One.

- ◆ BOLD READ
- ◆ GHUNNAH
- ◆ QALQALA
- ◆ MAKE IKHFA

Fourth Kalima Touheed

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ
يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ أَبَدًا أَبَدًا ذُو الْجَلَالِ
وَالْإِكْرَامِ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝



اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ اکیلا ہے اسکا کوئی شریک نہیں، اسی کے لئے ہے بادشاہی اور اسی کیلئے تعریف ہے
وہی زندہ کرتا اور مارتا ہے اور وہ زندہ ہے اور اس کو ہر گز کبھی موت نہیں آئے گی بڑے جلال
اور بزرگی والا ہے۔ اس کے ہاتھ میں بھلائی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔

There is none worthy of worship except ALLAH. He is alone and has no partner. To Him belongs the Kingdom and for Him is all praise. He gives life and causes death. And He is alive. He will not die, never, ever. Possessor of Majesty and Reverence. In His hand is all good and He has power over everything.

- ◆ BOLD READ
- ◆ GHUNNAH
- ◆ QALQALA
- ◆ MAKE IKHFA

أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ رَبِّي مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ أَذْنَبْتُهُ عَمَدًا أَوْ خَطَا سِرًّا

أَوْ عَلَانِيَةً وَأَتُوبُ إِلَيْهِ مِنَ الذَّنْبِ الَّذِي أَعْلَمُ وَمِنَ الذَّنْبِ

الَّذِي لَا أَعْلَمُ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ وَسَتَّارُ الْعُيُوبِ

وَعَفَّارُ الذُّنُوبِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ ۝

میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں جو میرا پروردگار ہے، ہر گناہ سے جو میں نے جان بوجھ کر یا بھول کر چھپ کر کیا یا ظاہر ہو کر اور میں اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں اس گناہ سے جس کو میں جانتا ہوں اور اس گناہ سے جس کو میں نہیں جانتا (اے اللہ) بیشک تو غیبیوں کا جاننے والا اور عیبوں کا چھپانے والا اور گناہوں کا بخشنے والا اور گناہ سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی قوت نہیں مگر اللہ کی مدد سے جو بہت بلند اور عظمت والا ہے۔

"I seek forgiveness from ALLAH, my Lord, from every sin I committed knowingly or unknowingly, secretly or openly, and I turn towards Him from the sin that I know and from the sin that I do not know, Certainly You (O ALLAH!), You (are) the knower of the hidden things and the Concealer (of) the mistakes and the Forgiver (of) the sins. And (there is) no power and no strength except from ALLAH, the Most High, the Most Great".

- ◆ BOLD READ
- ◆ GHUNNAH
- ◆ QALQALA
- ◆ MAKE IKHFA





اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ اَنْ اُشْرِكَ بِكَ شَیْئًا وَّ اَنَا اَعْلَمُ بِهٖ
وَ اَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا اَعْلَمُ بِهٖ تُبْتُ عَنْهُ وَ تَبَرَّاتُ مِنَ الْکُفْرِ وَ الشِّرْکِ
وَ الْکِذْبِ وَ الْغِیْبَةِ وَ الْبِدْعَةِ وَ النَّمِیْمَةِ وَ الْفَوَاحِشِ وَ الْبُهْتَانِ
وَ الْمَعَاصِیْ کُلِّهَا وَ اَسْلَمْتُ وَ اَقُوْلُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ ۝
 اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں کسی شے کو تیرا شریک بناؤں جان بوجھ کر
 اور بخشش مانگتا ہوں تجھ سے اس (شرک) کی جس کو میں نہیں جانتا اور میں نے اس سے توبہ کی
 اور بیزار ہوا کفر سے اور شرک سے اور جھوٹ سے اور غیبت سے اور بدعت سے اور چغلی سے
 اور بے حیائیوں سے اور بہتان سے اور تمام گناہوں سے اور میں اسلام لایا اور میں کہتا ہوں
 کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اللہ کے رسول ہیں۔

"O ALLAH! I seek refuge in You from that I should not join any partner with You and I have knowledge of it. I seek Your forgiveness from that which I do not know. I repent from it (ignorance) and I reject disbelief and joining partners with You and of falsehood and slandering and innovation in religion and tell-tales and evil deeds and the blame and the disobedience, all of them. I submit to Your will and I believe and I declare: There is none worthy of worship except ALLAH and Muhammad (P.B.U.H) is His Messenger."

- ◆ BOLD READ
- ◆ GHUNNAH
- ◆ QALQALA
- ◆ MAKE IKHFA